



سوال

(96) زیب و زینت کے ساتھ ٹیلی ویژن کی سکرین پر

جواب

السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ

ان عورتوں کو دیکھنے کے بارے میں کیا حکم ہے جو جن ٹھن کی ٹیلی ویژن کی سکرین پر نمودار ہوتی ہیں؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحة السؤال

و علیکم السلام ورحمة اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

عریاں یا نیم عریاں بے پردہ عورتوں کی طرف دیکھنا جائز نہیں ہے، اسی طرح ان مردوں کی طرف دیکھنا بھی جائز نہیں ہے جنہوں نے اپنی رائیں تنگی کی ہوئی ہوں، ایسے مردوں اور عورتوں کو ٹیلی ویژن، ویڈیو، سینما یا کسی اور بھی جگہ دیکھنا جائز نہیں ہے بلکہ آنکھیں جھکانا اور ایسے مردوں عورتوں کی طرف دیکھنے سے اعراض کرنا واجب ہے کیونکہ یہ فتنہ، دلوں کی خرابی اور ہدایت سے انحراف کا سبب ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يُغْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا أَرْوَاحَهُمْ ذَلِكُمْ أَزْكَ لَكُمْ إِنَّ اللَّهَ فَصِيحٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ۚ ۳۰ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ۚ ۳۱ ... سورة النور

”اے نبی ﷺ! مومن مردوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں اور یہ ان کے لئے بڑی پاکیزگی کی بات ہے (اور) جو کام یہ کرتے ہیں، اللہ ان سے خبردار ہے اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں۔“

اور حدیث میں حضرت محمد ﷺ کا یہ فرمان موجود ہے:

((النظرة سهم من سهام إبليس)) (المستدرک)

”نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔“

نظر کا خطرہ بہت عظیم ہے لہذا اس سے بچنا چاہیے، انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اس سے بچائے اور ٹیلی ویژن کے صرف ایسے پروگرام دیکھے جن میں مصلحت ہو مثلاً دینی، علمی یا فنی پروگرام، باقی رہیں حرام اشیاء تو انہیں دیکھنا جائز نہیں ہے۔



هذا ما عندي والتدأ علم بالصواب

فتاوى اسلاميه

ج 3 ص 83

محدث فتوى